



سوال

(293) مجالس ذکر میں غیر مشروع انداز

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پاکستان میں بعض دوست جو سلفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذکر کی مجالس قائم کرتے ہیں اور پابندی سے جمعرات کے دن عصر کے بعد جمع ہوتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ذکر کے لیے یہ وقت مناسب ہے بلکہ مناسب ترین ہے ان کے ہاں ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی سلمنے بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی بلندی سے ”اللہ“ کہتا ہے۔ اس کے گرد حلقہ میں بیٹھے ہوئے افراد چپکے چپکے ”اللہ اللہ“ کہتے رہتے ہیں پھر سلمنے بیٹھا ہوا شخص لفظ تبدیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ”سبحان اللہ“ اس کے بعد وہ ”سبحان اللہ، سبحان اللہ“ کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ذکر تبدیل کر کے ”الحمد للہ“ کہہ دیتا ہے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان دوستوں کا خیال ہے کہ وہ یہ کام تزکیہ نفس کے لیے کرتے ہیں اور وہ بعض احادیث سے دلیل لیتے ہیں جن میں ذکر کے حلقات کا ذکر آتا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر ان کی کیفیت اسی طرح ہے جس طرح سوال میں مذکور ہے کہ وہ ہمیشہ جمعرات کو عصر کے بعد مجلس ذکر منعقد کرتے ہیں اور آدمی سلمنے کر بلند آواز سے لفظ ”اللہ“ کہتا ہے اور وہ سب اس کے بعد آہستہ آہستہ ”اللہ اللہ“ کہتے رہتے ہیں۔ پھر وہ ”سبحان اللہ“ کہتا ہے اور وہ اسی طرح کہنے لگتے ہیں۔ پھر ”الحمد للہ“ کہتا ہے اور وہ بھی کہنے لگتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اگر ان کی یہی کیفیت ہے تو وہ اس عمل میں سلفی نہیں، نہ اہل سنت والجماعت ہیں، بلکہ وہ بدعتی ہیں۔ کیونکہ یہ عمل اس کیفیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

((مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا بِأَمَانَةٍ مِنْهُ فَهُوَ ذُو))

”جس نے ہمارے دین میں وہ چیز لے جا دی جو اس میں سے نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے۔“ (بخاری و مسلم)

حدیثوں میں جو حلقات ذکر اور اس کے لیے جمع ہونے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد علم کی مجلسیں ہیں۔

وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

الجبلیۃ الدائمۃ، رکن: عبداللہ بن قعود، عبداللہ بن غدیان، نائب صدر: عبدالرزاق عقیفی، صدر: عبدالعزیز بن باز۔



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى ابن باز رحمه الله

جلد دوم - صفحہ 328

محدث فتویٰ